

برائے فوری اجراء

سٹی کے نرچرنگ نیبرہڈز پروگرام کو 2021 میں بھی ورچوئل طور پر منعقد کیا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (2 جولائی 2021) – سٹی آف برامپٹن کے نرچرنگ نیبرہڈز پروگرام کا انعقاد مورخہ 7 جولائی 2021 کو ورچوئل طور پر کیا جا رہا ہے۔ اپنے عملے اور رہائشیوں کی صحت و تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے، یہ پروگرام اس سال بھی آن لائن طور پر ہی منعقد کیا جائے گا۔

نرچرنگ نیبرہڈز پروگرام کا مقصد رہائشیوں کو شہری معاملات کے ساتھ وابستہ کرنا، اپنے پڑوس کے ماحول کو بہتر بنانے میں ان کے کردار میں اضافہ کرنا اور انہیں وسائل کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ رہائشیوں کے پاس اپنے پڑوس کے بارے میں مزید جاننے اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنے کے تین طریقے موجود ہوں گے:

- ورچوئل ٹورز – سٹی کی ویب سائٹ پر، متعین شدہ تاریخوں پر پہلے سے ریکارڈ شدہ 15 ٹورز پوسٹ کیے جائیں گے۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ یہ ٹورز ورچوئل طور پر دیکھیں یا وہ فراہم کردہ ٹولز کی مدد سے جسمانی فاصلہ بندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذاتی طور پر بھی یہ ٹورز کر سکتے ہیں۔
- نیبرہڈ سروے – سٹی اس بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ کمیونٹی کا پڑوس کیسا ہے اور یہ کہ رہائشی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے متعامل ہوتے ہیں۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس سروے میں حصہ لیں۔
- آن لائن میننگ ٹول – ایک آن ٹول کی مدد سے رہائشی اپنی پسندیدہ جگہوں، اپنے خدشات اور ایسی تبدیلیوں کو نمایاں کر سکیں گے جن پر وہ پورے شہر میں عمل درآمد ہونا دیکھنا چاہتے ہوں۔

نرچرنگ نیبرہڈز اور ورچوئل واکس کی مکمل فہرست پر مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں:

www.brampton.ca/neighbourhoods

2020 پروگرام

گذشتہ سال، برامپٹن کے رہائشیوں کو باہم وابستہ رکھنے اور عوام میں ایک کمیونٹی کا احساس اجاگر کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے سٹی نے برامپٹن کے مقامی علاقوں کا ورچوئل دورہ کرایا تھا۔ 400 سے زائد رہائشیوں نے 2020 کے نرچرنگ نیبرہڈز پروگرام میں فعال کردار ادا کر کے اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کی۔ سٹی کو اپنے سروے میں 400 سے زائد جوابات اور آن لائن میننگ ٹول کے ذریعے 400 سے زائد شعبہ جات کے بارے میں نشاندہی موصول ہوئی۔ 2020 کے نتائج پر مزید کے لیے، ملاحظہ کریں:

www.brampton.ca/neighbourhoods

اقتباسات

"جب پڑوس کے علاقوں کی بات کی جائے جنہیں ہمارے رہائشی اپنا گھر مانتے ہیں، تو وہ اس کام میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں اور اس بارے میں ان کا اظہار خیال نہایت قیمتی ہوتا ہے کہ انہیں کیا کچھ پسند ہے اور وہ کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے پچھلے سال کے دوران نرچرنگ نیبرہڈز پروگرام میں شرکت کی اور میں ان رہائشیوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو اس سال کے 15 مقامی علاقوں میں شامل ہیں۔ آپ کی آواز اہمیت رکھتی ہیں اور آپ ہمارے شہر کی تشکیل میں مدد کر سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اس دوران کہ جب صوبے میں معمولات زندگی کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے اور جیسا کہ ہم کووڈ-19 کی عالمی وباء سے بحالی کی جانب گامزن ہیں، سٹی آف برامپٹن میں ہماری کمیونٹی کی صحت و تحفظ ابھی بھی ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ رہائشیوں کو اس بات

کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس سال نرچرنگ نیبرہڈز کے علاقوں کا ورچوئل طور پر دورہ کریں اور اپنے پڑوس کے علاقوں پر اپنے خیالات کا اظہار آن لائن طور پر کریں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے نہایت قیمتی ہیں اور قابل دوام کمیونٹیوں کے قیام میں آپ انتہائی ضروری کردار ادا کرتے ہیں۔"

- رووینا سیٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"نرچرنگ نیبرہڈز کے ذریعے رہائشیوں کو اپنے پسندیدہ علاقے جسے وہ اپنا گھر کہتے ہیں کے بارے میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع میسر آتا ہے اور اس کے ذریعے وہ سٹی کے مستقبل کے پروجیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں اور مقامی طور پر تبدیلی کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم برامپٹن کے رہائشیوں کو نرچرنگ نیبرہڈز پروگرام میں شامل ہونے اور اس میں بھرپور طور پر حصہ لے کر اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانے کی دعوت دیتے ہیں"

- چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن میں ہم پر عزم ہیں کہ برامپٹن کو ایک ایسا شہر بنایا جائے جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو اور جس کو ہماری متنوع کمیونٹی اپنا گھر کہنے پر فخر محسوس کرے۔ نرچرنگ نیبرہڈز پروگرام کے ذریعے اس سال پھر ہم اپنے شہریوں کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے کے متمنی ہیں اور پچھلے سال کے پروگرام میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca